



برامپٹن انٹرپرائیور سنٹر 12 اپریل سے اپنے کلانٹس کے لیے دوبارہ کھل رہا ہے

برامپٹن، آن (8 اپریل 2022) – صحت اور حفاظت پر اپنی مسلسل توجہ کے ساتھ، برامپٹن انٹرپرائیور سنٹر (BEC) اور کو-ورکنگ سپیس بروز منگل، مورخہ 12 اپریل 2022 سے ہر منگل اور ہر جمعرات کے دن صبح 9 سے شام 4 بجے تک ذاتی خدمات کے لیے دوبارہ کھلے رہیں گے۔

کو-ورکنگ سپیس کو استعمال کرنے کے لیے درخواستیں لازمی طور پر BEC کے پاس جمع اور منظور کرائی جانی چاہیں۔ درخواستیں Brampton.ca/incubator پر جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ منظور شدہ درخواست دہندگان کے لیے صبح 9 سے شام 4 بجے تک کو-ورکنگ کی سہولت دستیاب ہو گی۔

4 جولائی 2022 کے ہفتے کے آغاز سے، کو-ورکنگ سپیس ہفتے کے تین دن کھلا کرے گی، جن دنوں کا تعین کرنا ابھی باقی ہے۔

ان اوقات کے دوران BEC کے کاروباری مشیروں کے ساتھ مشاورت ورجوئل طور پر منعقد ہو سکے گی اور اسے [پہلے سے بک کرانا](#) ضروری ہو گا۔ لاکرز دستیاب نہیں ہوں گے۔

اگرچہ سٹی کی سہولت گاہوں میں داخل ہونے کے لیے اب چہرے کے ماسک کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کو-ورکنگ سپیس کے صارفین سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا احترام کریں جو ماسک پہننا جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ جسمانی دوری، گنجائش کی پابندیاں اور پری سکریننگ کی اب مزید ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ بیمار محسوس کر رہے ہوں، تو آپ کو گھر ہی رہنا چاہیے۔

کو-ورکنگ سپیس میں تشریف لانے والے ہر شخص کو اپنے کام کی جگہ میں آنے سے پہلے اور بعد میں، اس کے علاوہ سپیس میں موجود کسی بھی چیز (مثلاً فون بوتھ/میٹنگ روم) کو استعمال کرنے سے پہلے اور بعد میں چرائیم سے پاک کرنے کی ضرورت ہو گی۔ استعمال کے لیے سینٹائزیشن واپس مہیا کیے جائیں گے۔

برامپٹن انٹرپرائیور سنٹر کے بارے میں مزید معلومات کے لیے Brampton.ca/bec ملاحظہ کریں۔

30--

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca